



وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي

اور مجھ کو کیا گیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے حالانکہ تم سب کی بازگشت

تَرْجِعُونَهُ ۚ أَلَمْ يَخْلُقْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يَشَاءُ

جی جی کی طرف ہوگی۔ کیا میرا سر جو تیرا ایسے خدا بنا لیں کہ اگر (خدا سے) دشمن مجھے کوئی ضرر پہنچانا

الرَّحْمَنُ يَضُرُّكَ لَا تَعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُونَ

چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا ہی سکیں۔

إِنِّي إِذْ أَتَى ضَلَّ مُبِينًا ۚ لَئِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ

میں تو اس صورت میں کھل گیا تھا میں نے بجاؤنگا۔ سو (مجھ کو) لو میں تو یقیناً تمہاری پکڑ دگا

فَأَسْمَعُونَ ۚ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي

پر ایمان لایا ہوں۔ (اس سے) کہا جاے گا کہ تُو جنت میں چلا جا وہ کہے گا کہ کاش میری قوم کو لوگ

يَعْلَمُونَ ۚ يَمَا إِذَا قِيلَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

جی۔ جان لے کہ مجھے میرے پروردگار نے کس پر سے بنایا اور معززین میں سے

الْمُكْرَمِينَ ۚ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ

قرار دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر لہذا دینے کے لیے آسمان سے کوئی نذر

مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۚ وَإِذْ

نہیں آسمان سے اور نہ ہیں آسمان کی کوئی ضرورت تھی۔ ان کی گرفتاری

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۚ

کے لیے ایک ہی گانہ تھی کہ ایک وہ بچ کر رہے۔

يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا

بندوں کے حال پر کیا اسوں سے کوئی رسول بھی لنگے پاس ایسا نہیں آتا جس کی

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَمْلَكْنَا

یہ ہنسی نہ اڑاتے ہوں۔ کیا انہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے ان سے پہلے

وقف غفران

مذکور



لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْتُ

زسورج ہی کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑ جائے اور نہ رات ہی کی یہ قدرت ہے کہ دن

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ وَأَيُّكُمْ

سے آگے بڑھ جائے۔ حالانکہ یہ سب کسی ایک آسمان میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور ایک شانسی لاکھوں

أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُورِ ۝ وَخَلَقْنَا

انہیں کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا۔ اور ان کے لیے (بھی)

لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ

وہی چیزیں پیدا کر دیں جنہیں سوار ہونے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبو دیتے

فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا

ہیں انکا کوئی فریاد نہ رہتا اور نہ یہ بچھڑائے جاتے۔ سوائے اسے کہ ہماری رحمت ہو اور ایک لمحہ

وَمَا عَلَيْنَا لِيُحْيِيَنَّ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ

کے لیے نفع پہنچانا (مذہب اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گزشتہ (گنہوں) سے ڈرو

أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَمَا

اور آئندہ (کے عذاب) سے خوف کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس

بِأَيْدِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

انکے پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں آتی جس سے یہ روگردان

مُعْرِضِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

نہ ہوتے ہوں۔ اور جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا اس میں تم کو رکھنا

قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَطْعَمَ مِنْ لَدُنْ

میں بھی (خیر) کہ تو جو لوگ کافر ہو گئے ہیں مومنوں سے یہ کہتے ہیں کیا ہم اسکو کچھ کھلائیں جبکہ اگر ان

لِشَاءِ اللَّهِ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

چاہتا تو خود کھلا دیتا (اس معاملہ میں) تم صرف غلطی میں ہو۔

یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانی ہیں۔ سورج اور چاند کی مداروں میں ایک دوسرے کو نہ ٹکرائیں اور نہ رات کو دن کا وقت ختم ہو سکے۔ آسمانوں میں لاکھوں ستارے گردش کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی کشتیاں تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے۔

یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانی ہیں۔ سورج اور چاند کی مداروں میں ایک دوسرے کو نہ ٹکرائیں اور نہ رات کو دن کا وقت ختم ہو سکے۔ آسمانوں میں لاکھوں ستارے گردش کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی کشتیاں تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے۔

اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم بچے ہو تو یہ وعدہ (یعنی روز قیامت) کب تک آئے گا اور اتنا  
 نظر و ن الا صیحة و اجداة تاخذهم و هم یحتمون  
 غور نہیں کرتے کہ ایک سوچ ان کو کیا ایک ایسی اور یہ لڑنے جملہ ہے ہی رہے۔  
 فلا یستطیعون توصیة و لا الی اہلہم یرجعون  
 پس نہ اس وقت وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے مال میں سے کسی کو بھی بلا کر آئیں گے۔  
 و یفخر فی الصور فاذا ہم من الابدالی الذم  
 اور (دو بارہ) صورتوں کا جائیگا تو کیا ایک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی حضور میں حاضر ہونے لگیں  
 یسئلون قالوا یویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا  
 ہلہ ہلہ جلتی لکینے۔ کہتے ہو گئے ہائے خرابی ہماری ہر کو ہماری خواجگاہ سے اٹھانے کے وہاں وہاں ہاں ہاں  
 ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا  
 ہی تو وہ وقت ہو جلائی کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بھی کہا تھا کہ تم کو ہی خبر دی تھی۔ پس ایک ہی دن تو  
 صیحة و اجداة فاذا ہم جمیع لدینا محضرون  
 ہوگی کہ کیا ایک وہ سب ہماری حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔  
 قالین ما تظلم نفس شیئا و لا یجزون الا ما کنتم  
 پس اس دن نہ تو کسی نفس پر کوئی ظلم کیا جائیگا اور نہ تم کو کوئی بدلہ دیا جائیگا سوائے اس کے جو عمل  
 تعملون ان اصحاب الجنة الیق مرفی شغل  
 تم کیا کرتے تھے جبکہ جنتی لوگ تو اس دن نہ آئے اڑانے  
 فکہون ہم و ازا و اجمہ فی ظل علی الاراک  
 ہونے وہ اور انکی بیسیاں تختوں پر سایہ میں تلیہ لگائے  
 متکون لہم فیھا فاکہة و لہم ما یدعون  
 بیٹھے ہونگے۔ انکے لیے جنت میں ہر وہ اور انکے لیے ہر وہ چیز وہ چاہنے والا ہوگی۔

و یقولون متى ہذا الوعد ان کنتم صدیقین  
 اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم بچے ہو تو یہ وعدہ (یعنی روز قیامت) کب تک آئے گا اور اتنا  
 نظر و ن الا صیحة و اجداة تاخذهم و هم یحتمون  
 غور نہیں کرتے کہ ایک سوچ ان کو کیا ایک ایسی اور یہ لڑنے جملہ ہے ہی رہے۔  
 فلا یستطیعون توصیة و لا الی اہلہم یرجعون  
 پس نہ اس وقت وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے مال میں سے کسی کو بھی بلا کر آئیں گے۔  
 و یفخر فی الصور فاذا ہم من الابدالی الذم  
 اور (دو بارہ) صورتوں کا جائیگا تو کیا ایک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی حضور میں حاضر ہونے لگیں  
 یسئلون قالوا یویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا  
 ہلہ ہلہ جلتی لکینے۔ کہتے ہو گئے ہائے خرابی ہماری ہر کو ہماری خواجگاہ سے اٹھانے کے وہاں وہاں ہاں ہاں  
 ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا  
 ہی تو وہ وقت ہو جلائی کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بھی کہا تھا کہ تم کو ہی خبر دی تھی۔ پس ایک ہی دن تو  
 صیحة و اجداة فاذا ہم جمیع لدینا محضرون  
 ہوگی کہ کیا ایک وہ سب ہماری حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔  
 قالین ما تظلم نفس شیئا و لا یجزون الا ما کنتم  
 پس اس دن نہ تو کسی نفس پر کوئی ظلم کیا جائیگا اور نہ تم کو کوئی بدلہ دیا جائیگا سوائے اس کے جو عمل  
 تعملون ان اصحاب الجنة الیق مرفی شغل  
 تم کیا کرتے تھے جبکہ جنتی لوگ تو اس دن نہ آئے اڑانے  
 فکہون ہم و ازا و اجمہ فی ظل علی الاراک  
 ہونے وہ اور انکی بیسیاں تختوں پر سایہ میں تلیہ لگائے  
 متکون لہم فیھا فاکہة و لہم ما یدعون  
 بیٹھے ہونگے۔ انکے لیے جنت میں ہر وہ اور انکے لیے ہر وہ چیز وہ چاہنے والا ہوگی۔

اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم بچے ہو تو یہ وعدہ (یعنی روز قیامت) کب تک آئے گا اور اتنا  
 نظر و ن الا صیحة و اجداة تاخذهم و هم یحتمون  
 غور نہیں کرتے کہ ایک سوچ ان کو کیا ایک ایسی اور یہ لڑنے جملہ ہے ہی رہے۔  
 فلا یستطیعون توصیة و لا الی اہلہم یرجعون  
 پس نہ اس وقت وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے مال میں سے کسی کو بھی بلا کر آئیں گے۔  
 و یفخر فی الصور فاذا ہم من الابدالی الذم  
 اور (دو بارہ) صورتوں کا جائیگا تو کیا ایک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی حضور میں حاضر ہونے لگیں  
 یسئلون قالوا یویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا  
 ہلہ ہلہ جلتی لکینے۔ کہتے ہو گئے ہائے خرابی ہماری ہر کو ہماری خواجگاہ سے اٹھانے کے وہاں وہاں ہاں ہاں  
 ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا  
 ہی تو وہ وقت ہو جلائی کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بھی کہا تھا کہ تم کو ہی خبر دی تھی۔ پس ایک ہی دن تو  
 صیحة و اجداة فاذا ہم جمیع لدینا محضرون  
 ہوگی کہ کیا ایک وہ سب ہماری حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔  
 قالین ما تظلم نفس شیئا و لا یجزون الا ما کنتم  
 پس اس دن نہ تو کسی نفس پر کوئی ظلم کیا جائیگا اور نہ تم کو کوئی بدلہ دیا جائیگا سوائے اس کے جو عمل  
 تعملون ان اصحاب الجنة الیق مرفی شغل  
 تم کیا کرتے تھے جبکہ جنتی لوگ تو اس دن نہ آئے اڑانے  
 فکہون ہم و ازا و اجمہ فی ظل علی الاراک  
 ہونے وہ اور انکی بیسیاں تختوں پر سایہ میں تلیہ لگائے  
 متکون لہم فیھا فاکہة و لہم ما یدعون  
 بیٹھے ہونگے۔ انکے لیے جنت میں ہر وہ اور انکے لیے ہر وہ چیز وہ چاہنے والا ہوگی۔



بہت زیادہ مرد ہے اس تو اس بنا میں جھکا رہی ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور ہے اسکو علم منہ اشعر و ما ینبغی لہ ان ہو الا ذکرہ (یعنی اگر رسول کو شکر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لیے زیادہ ہے تو صرف نصیحت و قرآن مبین) لیستدرا من کان حیا و یحیی القول اور کھلا قرآن ہے تاکہ ان لوگوں کو جو زندہ (دل) ہیں ڈرائے اور انکار کرنے والوں کو علی الکفرین اور کفریوں کو اور تو ایروا انا خلقنا لہم مما علیت قول حق ثابت ہو جائے۔ کیا وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو پائے ہم نے اپنی قدرت کی بنا سے میں ایدیانا انعاما فہم لہا ما لکون و ذکر لکنا لہم انکے نفع کو لیے پیدا کیے ہیں بس وہ (اس وقت) اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہی نے ان کو چاروں کو فنہار کو بہم و منها یا کلوان و لہم فیہا ان کا سطح کر دیا ہے کہ ان میں سے بعض تو انہی سواروں میں اور ان میں سے بعض کو وہ کھانوں میں ملے منافع و مشارب افلا یشرکون و واتخذوا ان لوگوں کو چاروں میں بس تھی کشتیں اور جب کی چیزوں میں تو کیا وہ اس کے شکر گزار نہ ہونے اور انہوں نے خدا کو من دون اللہ الہة لعلہم یفکروا اور خدا بنا لیے تاکہ وہ اپنی کچھ مدد کریں۔ وہ ان کی یستطیعون نصرہم و ہم لہم جند ذرا مدد نہ کر سکتے حالانکہ ان کے لشکر کے لشکر ان کی عبادت کے لیے محضرون فلا یمیزک قولہم انا نعلم ما حاضر رہتے ہیں۔ بس (اسے رسول) اپنی باتیں نکور کج میں نہ دالیں جو کہ ہر جہاں سے اور یسرون و ما یعلمون اور کفریوں کو انا انسان انہوں نے سمجھا کہ ہم نے

یس ۳۶

ومالی ۲۳

نَعِيرَهُ نُنْكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا

عَلَّمَنَّهُ أَشْعَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ۝

وَقُرْآنٌ مَّبِينٌ ۝ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحْيِي الْقَوْلَ

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَلَّمَتْ

اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَا لَكُوْنَ ۝ وَذَكَرْنَا لَهُمْ

فِيْهَا رُكُوْبَهُمْ وَمِنْهَا يٰكُلُوْنَ ۝ وَلَهُمْ فِيْهَا

مَنْافِعُ وَمَشَارِبٌ ۝ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝ وَاتَّخَذُوا

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَفْكُرُوْنَ ۝ لَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ

مُحْضَرُونَ ۝ فَلَا يَمِيْزُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا

يَسْرُوْنَ وَمَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا اِنْسَانًا

اَنزَلْنٰهُ مِنْ سَمٰوٰتٍ مُّوجِبٰتٍ ۝ اَنَّا نَحْنُ اللّٰهُ سَمِيْعٌ

بہت زیادہ مرد ہے اس تو اس بنا میں جھکا رہی ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور ہے اسکو علم منہ اشعر و ما ینبغی لہ ان ہو الا ذکرہ (یعنی اگر رسول کو شکر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لیے زیادہ ہے تو صرف نصیحت و قرآن مبین) لیستدرا من کان حیا و یحیی القول اور کھلا قرآن ہے تاکہ ان لوگوں کو جو زندہ (دل) ہیں ڈرائے اور انکار کرنے والوں کو علی الکفرین اور کفریوں کو اور تو ایروا انا خلقنا لہم مما علیت قول حق ثابت ہو جائے۔ کیا وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو پائے ہم نے اپنی قدرت کی بنا سے میں ایدیانا انعاما فہم لہا ما لکون و ذکر لکنا لہم انکے نفع کو لیے پیدا کیے ہیں بس وہ (اس وقت) اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہی نے ان کو چاروں کو فنہار کو بہم و منها یا کلوان و لہم فیہا ان کا سطح کر دیا ہے کہ ان میں سے بعض تو انہی سواروں میں اور ان میں سے بعض کو وہ کھانوں میں ملے منافع و مشارب افلا یشرکون و واتخذوا ان لوگوں کو چاروں میں بس تھی کشتیں اور جب کی چیزوں میں تو کیا وہ اس کے شکر گزار نہ ہونے اور انہوں نے خدا کو من دون اللہ الہة لعلہم یفکروا اور خدا بنا لیے تاکہ وہ اپنی کچھ مدد کریں۔ وہ ان کی یستطیعون نصرہم و ہم لہم جند ذرا مدد نہ کر سکتے حالانکہ ان کے لشکر کے لشکر ان کی عبادت کے لیے محضرون فلا یمیزک قولہم انا نعلم ما حاضر رہتے ہیں۔ بس (اسے رسول) اپنی باتیں نکور کج میں نہ دالیں جو کہ ہر جہاں سے اور یسرون و ما یعلمون اور کفریوں کو انا انسان انہوں نے سمجھا کہ ہم نے

وقف لہ

بہت زیادہ مرد ہے اس تو اس بنا میں جھکا رہی ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور ہے اسکو علم منہ اشعر و ما ینبغی لہ ان ہو الا ذکرہ (یعنی اگر رسول کو شکر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لیے زیادہ ہے تو صرف نصیحت و قرآن مبین) لیستدرا من کان حیا و یحیی القول اور کھلا قرآن ہے تاکہ ان لوگوں کو جو زندہ (دل) ہیں ڈرائے اور انکار کرنے والوں کو علی الکفرین اور کفریوں کو اور تو ایروا انا خلقنا لہم مما علیت قول حق ثابت ہو جائے۔ کیا وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو پائے ہم نے اپنی قدرت کی بنا سے میں ایدیانا انعاما فہم لہا ما لکون و ذکر لکنا لہم انکے نفع کو لیے پیدا کیے ہیں بس وہ (اس وقت) اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہی نے ان کو چاروں کو فنہار کو بہم و منها یا کلوان و لہم فیہا ان کا سطح کر دیا ہے کہ ان میں سے بعض تو انہی سواروں میں اور ان میں سے بعض کو وہ کھانوں میں ملے منافع و مشارب افلا یشرکون و واتخذوا ان لوگوں کو چاروں میں بس تھی کشتیں اور جب کی چیزوں میں تو کیا وہ اس کے شکر گزار نہ ہونے اور انہوں نے خدا کو من دون اللہ الہة لعلہم یفکروا اور خدا بنا لیے تاکہ وہ اپنی کچھ مدد کریں۔ وہ ان کی یستطیعون نصرہم و ہم لہم جند ذرا مدد نہ کر سکتے حالانکہ ان کے لشکر کے لشکر ان کی عبادت کے لیے محضرون فلا یمیزک قولہم انا نعلم ما حاضر رہتے ہیں۔ بس (اسے رسول) اپنی باتیں نکور کج میں نہ دالیں جو کہ ہر جہاں سے اور یسرون و ما یعلمون اور کفریوں کو انا انسان انہوں نے سمجھا کہ ہم نے

خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَ

اسکو نطفہ سے پیدا کیا ہے پھر یکایک وہ کھلا جھگڑا اور بھلیا۔ اور

ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط قَالَ مَنْ مِثْلِي

ہمارے ہی لیے اس نے مثل بیان کی اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ میں کو کیوں الٹی

الْعُظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحِبُّهَا الَّذِينَ

کہ وہ خاک ہو جائے گی تندرہ کون کر دیکھا؟ تم کہہ دو کہ انکو وہی زندہ کر دیا جس نے انکو

أَشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تھا اور وہ ہر مخلوق کے حال سے واقف ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ۝

جسے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی کہ اب تم

فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي

آسی سے شلگائے رہتے ہو آیا وہ جس نے آسمانوں

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلٰىٰ أَنْ

کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ

يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۝ بَلٰىٰ وَهُوَ الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ ۝

بنائے ایسے اور پیدا کر دے۔ ضرور (قادر ہے) اور وہ بڑا پیدا کرنے والا (اورا) جانتا والا ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

یہ قطعاً ہنس کی شان ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس سے صرف اتنا فرما دے

كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ

کہ ہو پس وہ ہو جائے۔ پس منزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں

مَلَكَوٰتٌ كُلُّ شَيْءٍ وَّأَلَيْسَ تَرٰ جَعْوٰنٌ ۝

ہر چیز کا اختیار ہے اور آسی کی حضور میں تم سب کی بازگشت ہو گی۔

یہ قرآنی آیتوں کے حوالے سے مفصل تفسیریں اور تفہیمی تبیینیں ہیں۔ ان میں آیات کی عمیق تفسیر اور ان کی تعلیمی و روحانی افادگی پر زور ہے۔



یہ اس کتاب کے حوالے سے مزید تفصیلات اور اشاعتی معلومات ہیں۔ اس میں پتہ، فون نمبر اور دیگر رابطہ معلومات درج ہیں۔

سُوْرَةُ الصَّفَاتِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِ وَأَرْبَعِينَ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (دو) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتے ہیں)

وَالصَّفَاتِ صَفَاءً ۚ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۚ

تسم پر صفت باندھ کر گھڑی ہوئی والوں کی۔ پھر تسم ہے بجز کئے والوں کی۔

فَالثَّلَاثِ ذِكْرًا ۚ إِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ ۚ

پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ بیشک تمہارا معبود ضرور یکتا ہے۔

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آسمانوں کا اور زمیں کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے انکو پڑھیں گے

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۚ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ

اور مشرقوں کا مالک ہے۔ یقیناً چنے اس دنیا کے آسمان کو

الدُّنْيَا زِينَةً ۚ لَكُمُ الْكُوفُ ۚ وَحَفْظًا

ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور ہر سرکش شیطان

مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ

کے لیے ان کو نگہبان بنایا ہے۔ اب وہ طوائف کی

إِلَى الْمَلَائِكَةِ ۚ وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ

کنسیوں میں نہیں لے سکتے اور ہر طرف سے انکو بھگانے لے مار

جَانِبٍ ۚ دَحُورًا ۚ لَكُمْ عَذَابٌ وَأَصْحَابٌ

بڑنی ہے اور یہ ان کے لیے بائدار عذاب ہے۔

لَا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهَا شَهَابٌ

سوائے اس کے کہ کوئی آگنی ہوئی بات لے بھاگا سو ایک ستاروت گرا سکا ہے



تعمیراتی کاموں میں جانیے  
 قلمی اور فنی کاموں میں  
 طلبہ اور اساتذہ کی خدمت میں  
 اور دیگر امور میں  
 اور اساتذہ کی خدمت میں  
 اور دیگر امور میں  
 اور اساتذہ کی خدمت میں  
 اور دیگر امور میں

اور اساتذہ کی خدمت میں  
 اور دیگر امور میں  
 اور اساتذہ کی خدمت میں  
 اور دیگر امور میں



ثاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِمُ أَهْمَ اشْدُ خَلْقًا أَمْ

تیا ہے۔ اب اُن سے پوچھو کہ از رو سے پیدائش یہ خود زیادہ مضبوط ہیں یا وہ

مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طِينٍ

جن کو ہم نے پیدا کیا ہے یقیناً ہم نے انکو لُندار مٹی سے پیدا

لَا زَيْبٌ ۝ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا

کیا ہے بیات یہ کہ تمکو (اُنکے انکار سے) تعجب ہوا اور وہ (ہمارے تعجب کی آہٹیں اُڑاتے ہیں)

ذَكَرُوا الْأَيُّدِ كُرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا آيَةَ

اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں مانتے۔ اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو

يَسْتَسْخَرُونَ ۝ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

(اور زیادہ) ہنسی اُڑاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو

مُبِينٌ ۝ عَمَّا ذُمْتُمْ وَإِكْتَارًا أَبَا وَعِظًا مَّا

ہے۔ کیا جب ہم مرجھائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو

عَمَّا تَالْمَبْعُوثُونَ ۝ أَوْ آبَاءُ وَإِنَّا الْاَوَّلُونَ ۝

کیا ہم پھر اُٹھائے جائیں گے؟ آیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝ فَانصَابُ هِي

تم کہہ دو ہاں بلکہ تم سب ذلیل ہو کر آؤ گے۔ پس وہ ایک چٹکی

زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَ

ہی تو ہوگی کہ وہ سب بجا ایک (چروں کی شکل کر) دیکھتے اور کھینچتے پھرتے۔ اور

قَالُوا أَيَوِيلُنَا هَذَا أَيَوْمَ الدِّينِ ۝ هَذَا يَوْمٌ

کھینچنے کے ہے خرابی ہماری ہی تو جزاؤں سزا کا دن ہے۔ (جو اب علی گاجی ایسی نصیحت

الفصل الذي كنتم به تكذبون ۝

کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

تسخر

۱۳ سوالات کے جوابات اور ان کی تفسیریں

احشروا الذین ظلموا اوزوا جھرو ما كانوا  
 ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانیاں کی تھیں اور انکی ازواج کو اور خدا کے سوا جن کو  
 يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط  
 یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر لو پھر ان سب کو جہنم کا راستہ  
 الجحيم وقفوا لهم مسئلون ما لكم لا  
 بتا دو۔ اور انکو ٹھہرا لو کہ ان سے سوالات کیے جائیں۔ نہیں ہو کیا گیا ہے تم  
 تناصرون بل هم اليوم مستسلمون و  
 ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنے۔ بلکہ اس دن تو وہ بڑے تابعدار بنے ہوئے ہوں گے۔ اور  
 اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا لئن  
 ایک دوسرے کے پاس سوال کرتے ہوئے آئیں گے کہتے ہوئے کہ تم تو ہماری ہی اس اہلخانہ  
 تاتوننا عن اليمين قالوا بل تكفونوا مؤمنين و  
 سرگئی ہی بڑی اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے کہ تم ہی اپنا نذر نہ گئے۔  
 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما  
 اور ہمارا تم پر کوئی قابو تو تھا نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ  
 طغين فحق علينا قول ربنا انالذابقون  
 تھے پس ہم پر تو ہمارے رب کا قول پورا ہوا تھا کہ ہم ضرور (عذاب کا) مزہ پکھنے والے ہیں  
 فاغوينكم انالغوين فانهم يومئذ في  
 سوہنے تم کو بھی بہکایا کہ ہم تو گمراہ تھے ہی۔ پس اس دن وہ عذاب  
 العذاب مشركون لانالذالك تفعل بالجرمين  
 میں بٹے بٹے ہو گئے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔  
 انهم كانوا اذ قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون  
 بیشک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ سوا خدا کے کوئی سبوتا نہیں ہے تو یہ اگر ظاہری کرتے تھے

مع

سائل

۱۔ ولایت جناب امیر المؤمنین کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ امالی اور دلیوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمون مروی ہے۔





وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ

اور بیشک ان سے قبل پہلے والے بہت سے گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے ان میں ڈراڑھوں کے

مُنذِرِينَ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ۚ الْا

مُنذِرِينَ کے۔ پھر غور سے دیکھ لو کہ جنکو ڈرایا گیا تھا انکا انجام کیسا رہا! (ہاں اللہ کے

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۚ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ

مخلص بندے اس کو تھے ہیں۔ اور یقیناً نوح نے ہکو بکارا تھا پس ہم ہی تو سب

الْمُحِبِّينَ ۚ وَبَنِيَّاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ

اچھا جواب دیا اور انہیں اور بنیوں اور اہل کو بڑی تکلیف سے نجات دی

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي

اور ہم نے انکی اولاد کو ڈراڈھہ حق پر باقی رہنے والا قرار دیا۔ اور ہم نے چلے آئیوں میں اسے (یعنی انکی

الْآخِرِينَ ۚ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّكَ لَكُلِّ

صفت دیکھو کہ اسے کس قدر کو باقی رکھا۔ نوح پر تمام عالموں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو

تَجْزَى الْحُسَيْنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ ثُمَّ

اسی طرح ہر لادیا کرتے ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر

أَخْرَجْنَا الْأَخْرِينَ ۚ وَلَا تَنْ شَيْعَتِهِمْ لِأِبْرَاهِيمَ ۚ

ہم نے انکو ڈراڈھہ کیا اور یقیناً ابراہیم بھی انہی کے پیرووں میں سے تھے۔

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

جبکہ وہ اپنے پروردگار کی حضور میں سالم قلب سے آئے۔ جو وقت کہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم

مَاذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَيْفَا إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تَعْبُدُونَ ۚ

کو لوگوں پر کہا کہ تم پر کیا پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جموںے خداؤں کے مرید بنتے ہو؟

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ فَظَنُّ نَظْرَةً فِي الْجَعْمِ ۚ

تمام عالموں کو پروردگار کی نسبت تمہارا خیال کیا ہو؟ پھر ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی۔

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ' and 'وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ'.

Vertical handwritten notes on the left margin, providing commentary on the verses.

Handwritten note 'صفت' (Description) next to the first verse.

Handwritten note 'صفت' (Description) next to the fifth verse.

Handwritten note 'مجلس' (Session) in a box.

Handwritten note 'ال' (Al) at the bottom left corner.

Handwritten notes at the bottom of the page, including phrases like 'وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ' and 'وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ'.

فَقَالَ رَبِّي سَقِيمٌ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝ فَرَغَ عَلِيٌّ

اور یہ فرمایا کہ میں بیمار ہوں والا ہوں۔ پس یہ لوگ تو مجھ پر گھبرا کر گھبرا کر (اُدھر) گئے اور یہ سچ بچا ہوا

الْبَيْتِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝

انہ کے خدوں کی طرف گئے اور دریافت کیا کہ تم کچھ کھاؤ کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہو گیا کیا ہی بولتے کیوں نہیں؟

فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ

اب تو چھپ چھپے ان پر دائیں ہاتھ کی ضرب کاڑ لگے۔ اب وہ لوگ منہ لاکر ان کی طرف آئے

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

فرمایا کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جنکو اسی ہی ہاتھوں سے تڑتے ہو جلالا کہ اللہ نے تمکو بھی پیدا کیا ہے اور جو

تَعْمَلُونَ ۝ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ۝

تم بناؤ ہو تمکو بھی (پھر) انہوں نے آپس میں کہا کہ تم اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے سخت آگ میں ڈالو۔

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝ وَقَالَ رَبِّي

پس اس طرح وہ ابراہیم کے لیے ایک چال چلے اسے جو اس کی کو ذلیل کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں

ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ رَبُّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اپنی روگاری طرف جانے والا ہوں کہ وہ عترت میری ابراہیمی فرمائیگا۔ اسے تم پر درگاہ رکھے تاکہ لاؤ عطا فرما۔

فَبَشِّرْهُ بِبُحَيْرٍ عَالِمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي

پس جسے اُنکو ایک بڑا دریا فرزند کی بشارت دی پس جب وہ (فرزند) اُنکے ساتھ چلتے پھر سیک لاتی ہوا تو

رَبِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۝

انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بچے میں خواب میں دیکھتا گیا ہوں کہ میں تمکو ذبح کر رہا ہوں تو اب غور کر کہ تمہاری کو کیا

قَالَ يَا بَيْتَ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۝ سَيَجْعَلُكَ اللَّهُ بِأَن شَاءَ اللَّهُ

انہوں نے عرض کی یا جان آپکو حکم ملے گا بالائے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو سہر کرے والوں

مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْتُهُ

میں سے پائینے۔ پس جب دونوں ڈھلار اطاعت کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کی جھل ٹھار دیا اور بیٹے کو

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'بِسْمِ اللّٰهِ' at the top right.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

ان لا يرهبهم قد صدقت الرؤيا اننا كذلك نجزي

اور زي کہ اسے ابراہیم تم نے بیشک اپنا خواب سچا کر دیا ہم نیکی کر نیوالوں کو ایسا ہی بدلا

لحسنيين ان هذا هو البلاء المبين وقد بينه

دیا کرتے ہیں بیشک یہ کھلی آزمائش ضرور ہے۔ اور ہے اسکا ذریعہ ایک نبی قرآنی

عظيم وتركتنا عليه في الاخيرين سلمه على ابراهيم

مترکی ہے۔ اور اس کے کہنے آئندہ آیوالوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔

كذلك نجزي الحسينين لانه من عبادنا المؤمنين

نیکی کر نیوالوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں وہ یقیناً ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے

وبشرناه بالسحق نبيا من الصليين وبركنا عليه وعلى

اور ہے انکو اسحق نبی کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے تھے اور ہے ابراہیم اور اسحق پر برکت

السحق ومن ذريتهما حسين وظالم لنفسه مبين

تازل کی حال کہ ان دونوں کی اولاد میں ایک بھی ہو نیوالو اور کلمہ لکھا ہے اس پر ظلم کر نیوالوں میں

ولقد مننا على موسى وهرون ونجيناهما من القرب

اور بیشک ہم نے ہوتے اور ہارون پر احسان کیا۔ اور ہے ان دونوں کو اور انکی قوم کو نجات

العظيم وتصرتهم فكانوا هم الغلبين واتينهما

کھلی نجات دی۔ اور ہے انکی نصرت کی جس سے وہی غالب رہے۔ اور ہے ان دونوں کو پہلی

الكتب المستبين وهدينهما الصراط المستقيم

بیان والی کتاب عطا کی۔ اور ہم ہی نے ان دونوں کو راہ راست دکھائی۔

وتركتنا عليهما في الاخيرين سلمه على موسى وهرون

اور ہم ہی نے آئندہ آیوالوں میں انکا ذریعہ باقی رکھا۔ ہوتے اور ہارون پر سلام ہو۔

اننا كذلك نجزي الحسينين لانهم من عبادنا

بیشک ہم نیکی کاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ دونو ہمارے ایماندار بندوں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور زی کہ اسے ابراہیم تم نے بیشک اپنا خواب سچا کر دیا ہم نیکی کر نیوالوں کو ایسا ہی بدلا' and 'ان کا ذریعہ ایک نبی قرآنی'.

کامیاب کوئی نہیں ہے۔ بشرطیکہ خدا پر اور بھروسہ کر لیا جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے منافقانہ ہے فساهم فكان من المدحضین۔

میں سے تھے۔ اور یقیناً ایسا ہی رسولوں میں سے تھے۔ جسوقت کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں۔ تم بے عمل کو بیکار نہ ہو اور سب سے اچھے پیدائش والے اللہ کو احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی چھوڑ سکتے ہو۔

فقد بوءا فانهم لحضرون الا عباد الله المخلصین۔ یہاں انہوں نے ایسا ہی تکذیب کی وہ سب (غضب میں) ضرور دھر جائیں گے۔ اللہ کا خاص بند اس سے ہے جو ترکنا علیہ فی الاخیرین سلم علی آل یاسین۔ اور انکا ذکر ہے پیچھے انیوالوں میں باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو۔ بالقریم

کذالك تجزي المحسنين لانه من عبادنا المؤمنين۔ یہی گزنیوالوں کو ایسا ہی بدلادیا کرتے ہیں۔ وہ بیشک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

وان لو طامن المرسلين اذ نجبته واهله اجمعين۔ اور یقیناً لوہا رسولوں میں سے تھے۔ جبکہ اپنے انکو اور اپنے تمام گھرانے کو نجات دی

الا عجوزا فی الغدیرین ثم دمرنا الاخیرین وانا لقمرون علیهم مصبین۔ اور ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر اپنے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم صبح و شام آتے جاتے ضرور انکے آٹھارہ قدموں کے پاس ٹکرتی رہتی ہو تو کیا تم کچھ سمجھتے نہیں؟

وان یونس من المرسلین اذ ابق الی الفلک المشعور فساهم فكان من المدحضین والتقمہ۔ اور یونس بیشک رسولوں میں سے تھے۔ جبکہ وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں چلے گئے۔ پس کشتی والوں نے فرسہ والا تو یہ مغلوب رہے۔ پھر ان کو ایک چھلی

میں سے تھے۔ اور یقیناً ایسا ہی رسولوں میں سے تھے۔ جسوقت کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں۔ تم بے عمل کو بیکار نہ ہو اور سب سے اچھے پیدائش والے اللہ کو احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی چھوڑ سکتے ہو۔

فقد بوءا فانهم لحضرون الا عباد الله المخلصین۔ یہاں انہوں نے ایسا ہی تکذیب کی وہ سب (غضب میں) ضرور دھر جائیں گے۔ اللہ کا خاص بند اس سے ہے جو ترکنا علیہ فی الاخیرین سلم علی آل یاسین۔ اور انکا ذکر ہے پیچھے انیوالوں میں باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو۔ بالقریم

کذالك تجزي المحسنين لانه من عبادنا المؤمنين۔ یہی گزنیوالوں کو ایسا ہی بدلادیا کرتے ہیں۔ وہ بیشک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

وان لو طامن المرسلين اذ نجبته واهله اجمعين۔ اور یقیناً لوہا رسولوں میں سے تھے۔ جبکہ اپنے انکو اور اپنے تمام گھرانے کو نجات دی

الا عجوزا فی الغدیرین ثم دمرنا الاخیرین وانا لقمرون علیهم مصبین۔ اور ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر اپنے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم صبح و شام آتے جاتے ضرور انکے آٹھارہ قدموں کے پاس ٹکرتی رہتی ہو تو کیا تم کچھ سمجھتے نہیں؟

وان یونس من المرسلین اذ ابق الی الفلک المشعور فساهم فكان من المدحضین والتقمہ۔ اور یونس بیشک رسولوں میں سے تھے۔ جبکہ وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں چلے گئے۔ پس کشتی والوں نے فرسہ والا تو یہ مغلوب رہے۔ پھر ان کو ایک چھلی

میں سے تھے۔ اور یقیناً ایسا ہی رسولوں میں سے تھے۔ جسوقت کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں۔ تم بے عمل کو بیکار نہ ہو اور سب سے اچھے پیدائش والے اللہ کو احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی چھوڑ سکتے ہو۔

والصفت

۷۰

۲۳



الْحَوْتُ وَهُوَ مَلِيحٌ ۝ فَلَولا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَسْجُونِ ۝

کھل گئی اور یہ آپ کو ملامت کرنے لگے۔ جس اگر یہ کہیں مسیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ فَمِنْ ذُنُوبِهِ بِالْعَرَاءِ

جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن تک بچھلی کے پیٹ ہی میں رہے۔ پھر چھنے آگے ایک خالی جگہ میں لایا

وَهُوَ سَقِيمٌ ۝ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۝

جس حال میں کہ وہ ناقوان تھے۔ اور اُنکے اوپر کدو کا ایک درخت آگادیا۔ اور

أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝ وَأَمَّا مَتَّعْنَاهُمْ

آگے ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جس وہ لوگ ایمان لائے اور پھر انکو

إِلَى حِينٍ ۝ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّيَاسَاتُ وَالْبَنَاتُ وَ لَهُمُ

ایک (مقررہ) وقت تک نفع پہنچایا۔ اب انہی کو چھو کہ کیا تیرے خدا کو دیکھتے تو بیٹیاں ہیں اور انکے لیے

الْبَنُونَ ۝ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۝

بیٹے؟ کیا ہم نے انکو دیکھا دکھا کر فرشتوں کو عورتوں میں پیدا کیا ہے؟

أَلَمْ نَكُنْ لَهُم مِّنْ قَبْلِهِمْ لِقَوْلٍ ۝ وَلَدَا اللَّهُ ۝ وَإِلَهُم

آگاہ رہو یہ یقیناً انکا بہتان ہے (جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی اولاد ہے اور یہ یقیناً

لَكُذِبُونَ ۝ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝ مَا لَكُمْ قَدْ

جھوٹے ہیں۔ کیا اُنے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں اختیار کر لیں؟ تمہیں ہو گیا کیا ہے

كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ

تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس کوئی کھلی حجت

مُسِيئِينَ ۝ فَاتُوا بِكُتُبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝ وَجَعَلُوا

ہے؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے خدا کے

بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ أَنَّ

اور جنات کے مابین رشتہ قرار دیا۔ حالانکہ جنات اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ یہ (مفتیٰ بنو

بیتوں

بیتوں

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary.



عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝ سُبْحٰنَ

وقت تک کہ تم ان سے روگرداں ہو جاؤ اور دیکھتے رہو کہ کچھ عرصہ بعد ہی یہ دیکھ لینگے۔ تمہارا پروردگار

رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَىٰ

صاحب عزت و عظمہ ان سب باتوں کو سنو جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور تمام رسولوں پر

الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سلام ہو۔ اور ہر قسم کی تعریف تمام عالموں کے پروردگار اور ان کے رسولوں کے لیے ہے۔

سورة ص فکیتر وھی شان ثمانون ایتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ)

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ۚ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِي

ص۔ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی لیے جو برحق ہے لیکن جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ

عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۚ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

تکبر اور نافرمانی میں اڑے ہوئے ہیں ہم اُسے پہلے کتنے ہی زمانوں کو ہلاک کر چکے ہیں

فَنَادَوْا وَآوَاةٍ حِينَ مَنَاصٍ ۚ وَيَجْعَلُونَ جَانِہُمْ

بھڑھڑتے ہوئے جلائے نمرہ بجاؤ گا وقت نہ تھا۔ اور انہیں نجات یہ ہوا کہ اُنکے پاس ایک

مِّنْ دُونِهِمْ زَوْجًا وَقَالُوا الْكُفْرُ وَهَذَا السِّحْرُ كَذَابٌ ۚ

دوسرا الٰہ انہی میں سے آیا اور کافروں نے یہ بک دیا کہ یہ جھوٹا (اور) جادو گر ہے۔

اجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْغَايَةَ وَاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝

کیا اسے سب خداؤں کو ایک ہی خدا بنا دیا ہتیک یہ تو ضرور عجیب بات ہے۔

وَاَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ اَمْشُوْرٍ وَّاصْبِرُوْا عَلٰی الْهَيْبَةِ

اور اُنکے شرفاؤں کو ایک دوسرے کے پاس (یہ کہنے کے لیے کہ تم اپنے نبیوں کی ہوجاؤ اور قائم رہو

Handwritten notes in Urdu at the top of the page, including the title 'ومالی ۲۳' and various verses and commentary.



Vertical handwritten notes in Urdu along the left margin, providing commentary or additional verses.

Handwritten notes in Urdu at the bottom of the page, continuing the commentary or providing additional context.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number ۲۳ and ۲۴.

اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ  
 هَذَا الْاِخْتِلَاقُ اَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا وَاَبْلَهُمْ  
 فِي شَكِّ مَنْ ذَكَرِي بَلِّ لَمَّا يَدُوُّ وَاَعْدَابُ اَمْرٍ عِنْدَهُمْ  
 خَزَايِنُ رَحْمَةٍ رَّبِّكَ الْعَزِيْزُ الْوَهَّابُ اَمْرٌ لَّهُمْ مَّا ك  
 السَّمَوِيَّتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا الْاَسْبَابَ  
 جُنْدًا مَّا هُنَّاكَ مَهْزُومًا مِّنَ الْاَحْزَابِ كَذَّبَتْ  
 قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادُ وَاَفْرَعُوْنَ ذُو الْاَوْتَادِ وَاَمْرُودُ  
 وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحَابُ لَيْكَةِ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ اِنَّ  
 كُلَّ الْاَكْذَابِ الرَّسُلُ فَنَحَّ عِقَابٍ وَمَا يَنْظُرُ هُوَ اَوْلٰٓئِ  
 الْاَصِيْحَةِ وَاَحَدًا مَّا لَهَا مِنْ قَوَارِقٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجَلْ  
 لَنَا قِنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اَصْبِرْ عَلٰٓى مَا يَقُوْلُوْنَ

This column contains extensive handwritten commentary in Urdu, explaining the verses. It includes a large, stylized word 'لَا تَلْمِزْ' (Do not blame) written vertically. The text discusses the meaning of the 'Partners' mentioned in the Quran and the various nations mentioned in the verses.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

(جس سے تمام عالم کو اصول تو انہیں مانو نہیں) اسکا ایک جزو حضرت داؤد کا ہے قول بھی تھا کہ گواہ لانا ذمہ تھی اور بصورت اخبار دعویٰ

وَ اذْکُرْ عِبْدَنَا اُوْدًا وَاوْدًا الَّذِیْ اٰتٰهُ اَوَابًا ۝ اِنَّا سَخَّطْنَا الْجِبَالَ  
اور ہمارے قوت والوں میں سے داؤد کو یاد کرو بیشک وہ بڑی سوچ کرنا والا تھے ہم نے پہاڑوں کو سخر کر دیا تھا کہ  
مَعَهُ یَسْبَحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ ۝ وَالطَّیْرُ مَحْشُورَةٌ  
وہ ان کے ساتھ شام و صبح سبوح کیا کرتے تھے۔ اور پرندے بھی جمع رہتے تھے (اور  
کُلُّ لَهٗ اَوَابٌ ۝ وَشَدَّ نَامِلُکَ وَاَتَمَّ النِّجْمَ وَالْحِکْمَةَ وَ  
بہ سب ان کے مطیع تھے اور ہننے انکی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور سنوا انکو (قانون) شریعت اور  
فَصَلَ الْخُطَابَ ۝ وَهَلْ اَنْتَکَ نَبُوُّ الْخَصْمِ اِذْ تَسُوْرُوْا  
فیصلہ کرنی قوت عطا کی تھی۔ اور آیا تمہیں جھگڑنیوالوں کی بھی خبر ملی ہے جبکہ وہ حجاب پھانڈ کر داؤد کو  
الْحُرَابِ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰی دَاوُدَ فَفَزَعْمِنْهُمْ قَالُوْا اَلَا  
پس) انکو تھے اور وہ ان سے پریشان ہوئے تھے (اور) انہوں نے کہا تھا کہ فریے  
تَخَفْ خَصْمَیْنِ بَعْیْ بَعْضِنَا عَلٰی بَعْضٍ فَاَحْكَمْ بَيْنِنَا بِالْحَقِّ  
نہیں ہم دونوں دعا و دعا علیہ ہیں ہم میں سے ایک ذو سرب پرز یادنی کی رہیں آپ ہمارا فیصلہ کیا کیلئے کہ جو  
وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰی سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ اِنَّ هَذَا اَخِیُّ قَدْ لَهٗ  
اور کسی طرح کی زیادتی نہ کرو اور ہمیں راہ راست پر چلائیے (دیکھیے) یہ میرا بھائی ہے اسکے پاس  
تَسْعٌ وَّ تَسْعُوْنَ نَجَّةً وَّلٰی نَجَّةً وَّ اٰحَدَةٌ قَدْ قَالُ الْفٰلِقِیْنِهَا  
تینوں بھیتوں میں اور میرے پاس ایک ہی بھیت ہے پس اسکو چھو کر کہا کہ وہ ایک ہی بھیت ہے جو  
وَعَزَّتْنِیْ فِی الْخُطَابِ ۝ کَالْ لَقَدْ ظَلَمْتَکَ بِسُوْاْلِ نَعْمَتِکَ اِلٰی  
کردی اور بھوات کر دینے ہی بنا ہے۔ (حضرت داؤد نے فرمایا کہ بیشک اس نے اپنی بھیتوں کی ہوتی تیری بھیتوں کو  
نَعَاجِہٖ ؕ وَاِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الْخٰطِاِءِ لَیَبْغِیْ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ  
انکو سب سے زیادتی کی اور یقیناً بہت سوشیک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کر دیا کرتے ہیں  
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِیْلٌ مَّا ہُمْ وَظَنَ  
سوائے ان کے جو ایمان لائے ہوں اور نیکیوں کا رہوں اور وہ ہیں ہی حقوڑے اور (اس صہر پر بچ کر) داؤد

عدم شہادت قسم ذمہ تو عا علیہ۔ البتہ میں حجاب نام رہنم سے مقبول ہے کہ فیصلہ الجلیلی سے مراد ہے تمام زبانوں کا کھٹنا۔ اور بیت کی بھر بیوں میں بیات وارد ہوئی ہو کر اگر اہمیت کو طقت اور فصل الخطاب وہ وہاں زمان کی شخص

دقت لازم

مثل

لے ذمہ تو عا علیہ انہم جو سو مقول و کلام میں یاد و سوا قوت نیت اور عطا و بخش ہوتی ہے پھر حضرت نبی آیت تلاوت فرمائی

ایہ زمین و متول ہو کر متین کی کہ عاتیں میں جگہ ذریعہ سے وہ بچانے جلتے ہیں۔ وہ ہیں۔ شیخ بولتا۔ امانت اور اکرنا۔ عمدہ اور کرا۔ مخم کرا پر وقت کر لیتا۔ اور اس متول کے

و مانی ۲۳  
 ۲۲۶  
 ۳۸  
 اور اس کے بعد کہ عاتیں میں جگہ ذریعہ سے وہ بچانے جلتے ہیں۔ وہ ہیں۔ شیخ بولتا۔ امانت اور اکرنا۔ عمدہ اور کرا۔ مخم کرا پر وقت کر لیتا۔ اور اس متول کے

داوود ائتمافتنہ فاستغفر ربہ وخرراکعاواناب ۛ  
 ترجمہ: کہنے کے کہ میں اس فیصلہ کو ذریعے سے اٹکی رہا اس کی پس انوں اپنی پروردگار پر پیش مانی اور وہ میں میں ہو کر

فغفرنا لہ ذلک ولان لہ عندنا لزی وحسن ما ی  
 اور خدا کی طرف سے حق کی پھر میں نے اٹکی یہ لغزش معاف کر دی اور زمینا ہمارا نزدیک مانی اور میں نے تمہاری امانت اور ایمان

یداوود لانا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین  
 ایک بھی۔ اور داؤد نے جو اس زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے پس تم لوگوں کے مابین جھگڑا ٹھیک

الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضک عن سبیل اللہ  
 فیصلہ کیا کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تم کو راہ خدا سے بھٹکا دیگی

ان الذین یصلون عن سبیل اللہ لعذاب شدید  
 یقیناً جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جائیں گے ان کے لیے جو وہ اس کے کہ وہ روز حساب کو بھولے

بما نسوا یوم الحساب ۛ وما خلقنا السماء والارض  
 ہوسے تمہاری سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کو مابین ہر

وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا قویل  
 ہر کوئی جو انہیں پیدا کیا ہے تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہو گئے پس ان لوگوں کے لیے

للذین کفروا من النار ۛ امر تجعل الذین امنوا وعملوا  
 جو کافر ہو گئے جہنم کی دل ہے۔ آیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے

الصالحات کالفسیدین فی الارض ۛ امر تجعل المتقین  
 زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر بھیجئے؟ یا یہ رہنے والوں کو بدکاروں کو برابر

کالتجار ۛ کتاب اتر لہ لیک مدک لید برو ایتہ و  
 رکھینے؟ یہ کتاب جسکو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے رکت دلی ہے تاکہ وہ اس کے احکام میں نور

لیدکر اولوالالباب ۛ ووهبتا لداود سلیمان نعم العبد  
 کرس اور عطا مند صحبت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بہتر بندہ عطا کیا ایسی جگہ خدا کی

اور اگر اسے سعادت میں رکھو تو کعب کا ہے اور اگر اسے شہر ہو وہ رکھو تو ہمارا ہے خواہ وہ اور بھی نہیں نیک نہ تھا ہے

مجلس مسنونہ

بیت نیاہ و دہ روز و طالع کا پل کا نا کا جوت صراط کا پل

بہت سے عربی و فارسی حواشی اور تفسیریں لکھی ہیں۔ ان الفاظ خاص کے معنی اور کچھ اور بھی لکھے ہیں۔ ان الفاظ کا تفسیر کے بارے میں سوال کیے ہیں ان الفاظ کا تفسیر کے بارے میں سوال کیے ہیں۔ ان الفاظ کا تفسیر کے بارے میں سوال کیے ہیں۔ ان الفاظ کا تفسیر کے بارے میں سوال کیے ہیں۔



اور اگر اسے سعادت میں رکھو تو کعب کا ہے اور اگر اسے شہر ہو وہ رکھو تو ہمارا ہے خواہ وہ اور بھی نہیں نیک نہ تھا ہے

اور اگر اسے سعادت میں رکھو تو کعب کا ہے اور اگر اسے شہر ہو وہ رکھو تو ہمارا ہے خواہ وہ اور بھی نہیں نیک نہ تھا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ لِي حَسْرَةٌ يَوْمَ أُدْعَىٰ لِلْحِسَابِ ۚ

طوت بزار جوع کرنا والا تھا۔ (سوقت کو یاد کرو) جبکہ شام کو قرب آنکے سامنے غاصے کے میل گھوری شکر کے

فَقَالَ لِمَنِّي أَحَبُّتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي فَقَدْ تَوَارَتْ

تو کہنے لگے کہ میں نے مال کی قیمت میں ایسے پورے درگاہ کی یاد چھوڑ دی یہاں تک کہ (سورج) پر دس میں

بِالْحِجَابِ ۚ دَرُّهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْمًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيَانِ

چھپ گیا۔ انہیں میرے آگے پھر لڑتا لاؤ پھر انہوں نے بندھ لیں گوا در گزروں کو چھو کر کیا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۚ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كَرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ

اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور آنگلی کرسی پر ایک بیجان لاش ڈال دیا پھر انہوں نے

أَنَابَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْتَغِي أَحَدٌ

رجوع کی۔ عرض کرنے لگے کہ اے میری پروردگار میری خطا میں بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے

مِن بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۚ فَسَفَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي

بیکسی اور کوسٹری نہ آتی بیشک تو پر عطا فرما بیو الا ہے۔ پس مزی ہو اگو آنکے تاج کر دیا کہ وہ آگے بڑھ کر

بِأَمْرِ رُحَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَشَرٍ مِّنْهُ

جہاں چاہتا آگے بڑھی وہ آسانی پہنچا دیتی تھی۔ اور شیطان کو اکلامت کو دیا تھا وہ عمارتیں بنا کر

عَوَاصٍ ۚ وَآخِرِينَ مَقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ هَذَا

اور وہاں میں غوطا لگاؤ تھی۔ اور کچھ اور تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری

عَطَاؤُنَا فَامْنِ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا

دین ہے اب خواہ دوسروں کو عطا کرو یا چل کر دیا اسکو متعلق حساب لیا یا مانگا اور یہاں سلیمان کو ہماری

لَزَلْنِي وَحَسَنَ مَا بٍ ۚ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۚ مَلَأْنَا بطنَهُ

تو یہ بھی حاصل تھا اور نیک انجام بھی۔ اور ہمارے بندہ ایوب کا ذکر کرو جو سوقت انہوں نے اپنی

رَبِّهِ ۚ إِنَّ مَسْنِي الشَّيْطَانُ يُنْصَبُ وَعَذَابٌ ۚ أَرْكُضُ

کو چھڑا کہ شیطان نے مجھ کو رنج بھی پہنچایا ہے اور درد ناک تکلیف بھی۔ (یہ جواب پاک) کہ تم زمین پر

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and additional verses related to the main text.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary.





لَٰنَ هٰذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ تَقَادٍ ۝ هٰذَا اَوْ اَمَانَ لِلطَّعِينِ

بیشک یہ ہمارا وہ عطیہ ہے جسکا خاتمہ ہو یوں والا نہیں۔ یہ تو ہے۔ اور سرکشوں کے لیے ضرور

لِشْرَمَائِبٍ ۝ هَمٌّ يَصْلُوْنَهَا فَيْسَ الْهَادُ ۝ هٰذَا

انجام بڑا ہے (یعنی) جہنم جس میں وہ داخل ہونگے پس بہت ہی بڑا چھوٹا ہے۔ یہ تو ہے

فَلَيْدٌ وَقُوَّةٌ حَمِيمٌ وَعَشَاقٌ ۝ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهِ

پس آپ سے کہ اسکی تمہیں کیسا کہوں لاپانی اور کسی پیچھے اور اسی شکل کے اور بہت ہی گروہ

اَزْوَاجٍ ۝ هٰذَا فَوْجٌ مَّقْتُولٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ

ہونگے۔ یہ فوج کی فوج تمہارے ہی ساتھ تھنے والی ہے انکو کہیں ٹھکانا نہ ملے۔

لَا تَنْهَمُ صَالُو النَّارِ ۝ كَالْوَابِلِ اَنْتُمْ قَوْلًا مَرْحَبًا بِكُمْ ط اَنْتُمْ

یہ جی تہم میں اصل ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے کہ تم ہی کو کہیں ٹھکانا نہ ملے تم ہی نے تو

قَدْ مَشَّوْهُ لَنَا فَيْسَ الْقَرَارُ ۝ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدْ مَلْنَا

ہمارے پہلے سے یہ تیار کیا ہے تو یہ کیسا بڑا ٹھکانا ہے۔ پھر عرض کرینگے کہ ای ہماری پروردگار تیری یہ تیار کیا ہے

هٰذَا اَفَزِدُّهُ عَذَابًا لِّمَنْ عَقَبَا فِي النَّارِ ۝ وَقَالُوْا اَمَّا لَنَا لَنْ نَرٰى

یہ تو تیار کیا تو اسی آگ میں اسکا عذاب دوگنا بڑھا دے۔ اور وہ کہینگے کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو

رَجَا لَا كُنَّا نَعْدُوْهُمْ مِنْ الْاَشْرَارِ ۝ اَسْتَحْذَرْنَاهُمْ سَخِرْنَا مِنْهُمْ

نہیں دیکھتے جنکو ہم بدوں میں سے شمار کیا کرتے تھے۔ آیا انکو ہم نے سخوا بنا لیا تھا یا

رَاٰخَتْ عَنْهُمْ الْاَبْصَارُ ۝ اِنَّ ذٰلِكَ لِحَقِّ خَاصِمٍ اَهْلٍ

نگاہیں ان سے اچھری ہیں: بیشک یہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا برحق

النَّارِ ۝ قُلْ لَٰنَعْمًا اَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِّنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ

ہے۔ تم کہد کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور سوائے خدا کے یکتا اور بزدست کے کوئی اور موجود

الْقَهَّارُ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ

نہیں ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو چھو ان دونوں کو باہن پرانکا پروردگار بڑا زبردست (اور)

بیشک یہ ہمارا وہ عطیہ ہے جسکا خاتمہ ہو یوں والا نہیں۔ یہ تو ہے۔ اور سرکشوں کے لیے ضرور انجام بڑا ہے (یعنی) جہنم جس میں وہ داخل ہونگے پس بہت ہی بڑا چھوٹا ہے۔ یہ تو ہے

بیشک یہ ہمارا وہ عطیہ ہے جسکا خاتمہ ہو یوں والا نہیں۔ یہ تو ہے۔ اور سرکشوں کے لیے ضرور

بیشک یہ ہمارا وہ عطیہ ہے جسکا خاتمہ ہو یوں والا نہیں۔ یہ تو ہے۔ اور سرکشوں کے لیے ضرور

بے شمار فرشتوں کی تسبیح اور سب فرشتوں نے ہماری تسبیح شن کر تسبیح کرنا بیگناہ۔ (یقیناً فیض میں ملاحظہ ہو) ۱۲ فر ۶ ۶ ۶ ۶

۳۸ ص (۳۰) ومالی ۲۳

الْفَقَّارِ ۝ قُلْ هُوَ تَبَوُّءُ عَظِيمٍ ۝ اَتُمِرُّعُنَهُ مَعْرُضُونَ ۝ مَا  
 كَان لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْاَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ اِنْ يَوْسُفَ اِلَىٰ  
 اِلَّا اَتَمَّ اَنَّا نُنذِرُ مَثِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ  
 بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۝ فَاذْ سُوِّبَتْهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا  
 لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجِعُوْنَ ۝ اِلَّا اِبْلِيسَ  
 اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ يَا اِبْلٰسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ  
 تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدِيْ ۝ اسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ  
 الْعٰلِيْنَ ۝ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ وَخَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ  
 طِيْنٍ ۝ قَالَ فَاَخْرِجْ مِنْهَا فَاتَّكَ رَحِيْمٌ ۝ وَاَنْ عَلَيَّكَ  
 لَعْنَتِيْ اِلَىٰ يَوْمِ الدِّیْنِ ۝ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلَىٰ یَوْمِ  
 یُّبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ فَاَتَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ اِلَىٰ یَوْمِ الْوَقْتِ

بے شمار فرشتوں کی تسبیح اور سب فرشتوں نے ہماری تسبیح شن کر تسبیح کرنا بیگناہ۔ (یقیناً فیض میں ملاحظہ ہو) ۱۲ فر ۶ ۶ ۶ ۶

الْمَعْلُومِ ۚ قَالَ فَيُعْزِزُكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ لَا أَعْبَادَ

انے عرض کی اب تیری ہی عزت کی قسم ان میں سے تیرے خالص بندوں کو چھوڑ کر اور تو میں

مِنْهُمْ الْخَالِصِينَ ۚ قَالَ فَالْحَقُّ زُ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۚ لَا مَلِكَ

سب ہی کو بگاؤنگا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہے دیتا ہوں میں بھی تجھ سے اور

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

ان میں سے میری تیرے پروردگار کے ان سب سے جہنم کو پاشی دونگا۔ تم کہہ دو کہ میں تو تمہاری رشتہ

عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۚ لَئِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

کا کوئی اجر مانگتا ہی نہیں اور تم میں تکلف کرنے والا آدمی ہوں۔ یہ تو تمام اہل عالم کے لیے ایک

لِلْعَالَمِينَ ۚ وَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۚ

نصیحت ہی اور اس کی اتنی خبر کچھ عرصہ کی بعد تم سب کو ضرور ہی معلوم ہو جائیگی۔

سورة الزمر مکیہ تھی خمس وسبعون آیتا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ

رحمن (د) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لَكَ

اس کتاب کا اتنا زبردست طہت والی طرف سے ہے۔ یقیناً جتنے یہ کتاب تمہارے پاس حق کے

الْكِتَابِ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ فَخُلَصَالَهُ الدِّينِ ۚ أُولَئِكَ

ساتھ آماری ہے پس تم اطاعت کو خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرو۔ خبر دلا ہو کہ اطاعت

الدِّينِ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ

خالص خدا ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

ہم تو ان کی بخشش مرنا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے نزدیک کر دیں ضرور خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانے گا

یانیہ یہ عرض کی جی ہاں تمہارا کار عبادت میں سے کون ہوئی تو زیادہ موزوں یہ تھا کہ یہ تم کو پہنچاؤں کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اور اللہ ہی کا حکم ہو گا



آیاتنا  
حرفونہا  
۱۱۴۳

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

وَأَنَّ مِنْكُمْ خَائِفَاتٌ لِّأَسْمَائِهِمْ وَرَبُّنَّاهُنَّ فِي الْحَمَامِ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا يَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ

الزمر ۳۹

فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ  
 كَفَّارٌ ۚ وَآرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ  
 مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ حِسَابٌ ۚ وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ  
 عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى لِأَجَلٍ  
 مُّسَمًّى ۚ إِنَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۚ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا وَنَحْوًا لَكُمْ ۚ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مِثْلُ مَا  
 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ  
 ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآفَىٰ  
 تَصْرُفُونَ ۚ إِنَّ تَكْفُرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ  
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
 وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُوا إِلَىٰ نِعْمَتِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ سَأُولُوا لَكُمُ الْعَذَابَ الَّذِي نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَإِن تَعِدُنَّهُمْ لَتَصُدَّ عَنْهُ جَمْعٌ مِّنَ النَّاسِ لَمَّا يَسْمَعُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبِغُونَ بَخْسًا فَرِيقًا مِّنَ النَّاسِ وَبِغُوا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَإِن تَعِدُنَّهُمْ لَتَصُدَّ عَنْهُ جَمْعٌ مِّنَ النَّاسِ لَمَّا يَسْمَعُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَبِغُونَ بَخْسًا فَرِيقًا مِّنَ النَّاسِ وَبِغُوا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَإِن تَعِدُنَّهُمْ لَتَصُدَّ عَنْهُ جَمْعٌ مِّنَ النَّاسِ لَمَّا يَسْمَعُونَ ۚ

وَأَنَّ مِنْكُمْ خَائِفَاتٌ لِّأَسْمَائِهِمْ وَرَبُّنَّاهُنَّ فِي الْحَمَامِ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا يَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ

وَأَنَّ مِنْكُمْ خَائِفَاتٌ لِّأَسْمَائِهِمْ وَرَبُّنَّاهُنَّ فِي الْحَمَامِ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا يَحْتَفِلْنَ فِيهَا ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَمَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ ۚ

وَزَرًا خَرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

بو جہزہ اٹھا لیا پھر تم سب کی بازگشت تمہاری پروردگار کی طرف ہوگی پھر وہ جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اس سے

تَعْمَلُونَ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ

وہ تم کو آگاہ کر دے گا۔ یقیناً وہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہے اور انسان پر جب کوئی

الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دُعَا رَبِّهِ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

مسیبت پڑتی ہے تو وہ اپنی پروردگار کی طرف رجوع کر کے دعا مانگنے لگتا ہے پھر جب اس پر اپنی رحمت کی نعمت

مِّنْهُ يُسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ

عطا فرمادیتا ہے تو جس بات کی دعا مانگا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنا کر لگتا ہے

أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكُمْ أَكْفَانًا

کہ اور لوگوں کو راہِ خدا سے بھٹکانے۔ تم یہ کہو کہ تم اپنے کفر سے تمہارے خود کو نفع اٹھاؤ تو یقیناً

مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ أَمْ نَهْوَاكُم أَنْ تُقَالُوا سَاجِدًا

جہنمیوں میں سے ہے۔ آیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ میں اور کھڑے کھڑے خلوص سے

قَالُوا مَا يَتَذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

دعا کرنا الہا ہوا اور آخرت توڑنا ہوا اور اپنی پروردگار کی رحمت کا امید دار ہونا (مذکورہ بالا شخص کا نام نہ ہو سکتا ہے؟)

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ

تم یہ کہو کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو جائیں گے؟ تمہارے تو اس کو فقط عقل والے ہی

الْأَلْبَابِ ۚ قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ

ہیں۔ تم یہ کہو کہ اگر یہ بندہ جو ایمان لائے ہو تم اپنے پروردگار سے ڈرو اور ان لوگوں کو ڈرا

أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ

جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھی خوبی ہے اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔

لَا تُسْأَلُونَ فِي الصُّيُورِ ۚ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ قُلْ إِنِّي أَمْرٌ

سوا اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو آجرا بلا حساب پوری (پوری) دیا جائے۔ تم یہ کہو کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'مذکورہ' (Muzkurah) and other commentary.

Main body of the text containing the Quranic verses and their Urdu translations.

Handwritten marginal notes in Urdu script on the right side of the page.



تَتَقَدُّ مِنْ فِي النَّارِ لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ عَرَفُوا

جو تم میں سے بچا ہو چھڑا سکتے ہو، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بند مکان

مِنْ فَوْقَهَا عَرَفُوا مَنِيَّةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

پونگے اور اُن کے اوپر اور اُسے مکان بنی ہوئی ہو گئے جن کے نیچے تیزیاں بہتی ہوئی۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنی وعدہ کو خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ

پانی اُمتارا پھر زمین میں اُس کے نیچے بنا کر جاری کر دیا پھر اُس کے ذریعہ سبز رنگ برنگ

بِهَ زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْدِيهِ فَيَرْسُلُهُ فِي مَصْفَرٍ أَسْفَلَ

کی کھیتی پیدا کرتا ہے پھر وہ خشک ہو لے لگتی ہے پھر اُس کو سوزد ہوا دیکھ لیتی ہو پھر وہ اُس کو کھلیا

حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ

کر دیتا ہے بیشک عقلمندوں کے لیے اس میں بھی نصیحت موجود ہے کیا وہ شخص جس کے سینے کو

اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ط فَوَيْلٌ

اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنی پروردگار کی طرف سے نور (ہدایت) پر ہے (یا کوئی اور) پس افسوس

لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اُن لوگوں پر ہے جن کے دل یاد خدا کرنے سے سخت ہو گئے ہیں وہی تو کھلی گمراہی میں ہیں۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ۝

اللہ وہی تو جو سچے سچے اور سچی بات نازل فرمائی (یعنی ایک کتاب جیسی آیتیں ایک دوسری کی تہی جلتی ہیں اور پھر

تَقْشُرُ مِنْهَا جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

لمرانا کی ہیں اس کی جو لوگ اپنی پروردگار سے ڈرتے ہیں اُن کے رونگٹے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اُن کے جسم اور اُن کے

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ط ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ

دل تو رہا جاتے ہیں (اور) اُنہی کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہی تو خدا کی ہدایت ہے جو کوئی

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

۱۰۱

مناجرت

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

یَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور جس کو خدا تعالیٰ توفیق ہدایت سلب کر لے تو اس کا رہبر کوئی نہیں ہوتا۔

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ

پھر کیا وہ شخص جو اپنی ذات کو قیامت کو دن بڑی سزاؤں کا ڈر ہے اسے (اس سزا سے محفوظ رہنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟)

لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

ناظرانوں سے (اس نے) یہ کہا جانیگا کہ تم جو کچھ کیا کرتے تھے اب اس کا برا چکھو۔ جو لوگ انہیں سزا دے گا انہیں (پھر نہیں تو)

قَبْلَهُمْ فَاتَّهَمُوا الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

پہلے ہی ان پر عذاب بھی اس طرح آیا کہ یہ کچھ نہ سمجھے۔

فَإِذَا قُضِيَ لِلَّهِ الْأَمْرُ الْأَخِيرُ أَذْهَبَ الْخَافِيَةَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ

پس اللہ نے زندگی دنیا میں تو ان کو رسوائی کا سزا چکھایا اور آخرت کا عذاب

الْآخِرَةُ الْكِبْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ خَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي

اور بڑھا ہوا ہے کاش یہ اسے سمجھتے! اور ہم نے انہیں کیلئے اس قرآن میں ہر طرح

هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا

کی مثل بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی زبان میں

عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

ہر طرح کی جہی سے بری ہے (جسلی غرض یہ ہے کہ وہ (خدا سے) ڈریں۔ خدا نے مثل بیان کی تو ایک ایسی

زَجَلَانِيَّةٍ شَرَكَاءُ مَثَلًا كَسُونَ وَرَجُلًا سَلَبَ الرَّجُلَ هَلْ

مرد کی جس میں کئی ایک جھگڑا الوصہ داروں اور ایک ایسے مرد کی جو سالم اور فاسد ایک ہی شخص کا ہو۔ آیا

يَسْتَوِينَ مَثَلًا لِمَنْ يَلُّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَعِيتٌ

مثل میں دو ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی تعریف خدا کی کوئی زیادہ کران میں سوا تعریفی نہیں جاتی۔ تم جو یقیناً مرزا الی

وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

اور یہ بھی ضرور مرتد ہوا رہیں۔ پھر قیامت کو دن تم سب کے سب ضرور اپنی پروردگار کو پاس جھگڑتے ہوئے آؤ گے۔

بعض آیات میں قرآن مجید کی تفسیر اور تفسیر کے حوالے دیے گئے ہیں۔

بعض آیات میں قرآن مجید کی تفسیر اور تفسیر کے حوالے دیے گئے ہیں۔